

نسی مساوات کی ترویج کے لیے موجودہ اور تجویز کردہ اقدامات

پلانگ اینڈ لینڈر برانچ ڈویلپمنٹ بیورو

ڈویلپمنٹ بیورو (ڈی ای وی بی (پی ایل بی)) کی پلانگ اینڈ لینڈر برانچ ان پالیسیوں کے بنانے کی نہ مدار ہے جو کہ منصوبہ بندی، ترقی، اراضی کے استعمال اور فرابمی، اراضی کے انتظام، اراضی کے اندراع، شہری تجدید اور بلڈنگ سیفٹی کے حوالے سے نافذ العمل ہیں۔ یہ بیورو کی طرف سے نسلی اقلیتوں کی حکومتی معلومات اور خدمات تک رسائی کو فعال بنانے کے حوالے سے خصوصی توجہ دیتی ہے۔ نسلی مساوات کی ترویج اور نسلی اقلیتوں کے لیے ہماری کمیونٹی سروس تک مساویانہ رسائی کے اقدامات کیے گئے ہیں۔

A. پلک انکوائری سروس

- عامة الناس ڈی ای وی بی (پی ایل بی) کے متعلق معلومات ٹیلیفون انکوائری، ای میل اور معلومات تک رسائی کے ضابطہ کے تحت کی گئی درخواست کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کہ نسلی پس منظر سے قطع نظر عوامی انکوائری سروس بہ آسانی عوام تک پہنچے، سروس کی فرابمی کے دوران زبان کی رکاوٹ پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔

- ترجمانی کی سروس کا انتظام کیا جائے گا جہاں ضروری اور مناسب سمجھا گیا۔

مستقبل کے کام کا
جائزہ

- نسلی اقلیتوں کے صارفین سے ترجمانی کی سروس کے موثر ہونے کے حوالے سے رائے وصول کی جائے گی تاکہ اس کا جائزہ لیا جائے اور اسے بہتر بنایا جائے۔

B. اپیل ٹریبیونل (بلڈنگ)

متعلقہ خدمات

- اپیل ٹریبیونل (بلڈنگ) (اے ٹی بی) کو ہانگ کانگ کے قوانین بمعنی بلڈنگ آرڈیننس کے سیکشن 48، باب 123 کے تحت تشكیل دیا گیا ہے، تاکہ بلڈنگ اتھارٹی کے خلاف اپیل کی سماعت کی جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے جو کہ اس فیصلے سے متاثرہ فرد کی شکایت پر دائر کی جاتی ہے۔

موجودہ اقدامات	<ul style="list-style-type: none"> اے ٹی بی سے متعلق معلومات اے ٹی بی کی ویب سائٹ پر دو سرکاری زبانوں (جیسا کہ چینی اور انگریزی) میں دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ، عامہ الناس میں تقسیم کے لیے دونوں سرکاری زبانوں میں معلوماتی کتابچے بھی شائع کیے جاتے ہیں۔
مستقبل کے کام کا جائے	<ul style="list-style-type: none"> اے ٹی بی ترجمانی کی سروس کا انتظام کرے گی، جہاں موزوں خیال کیا گیا۔
اضافی اقدامات جو لیے گئے/جو کہ لیے جائے ہیں	<ul style="list-style-type: none"> اے ٹی بی نسلی اقلیتوں کی ضروریات کی تکمیل کے پیش نظر وقتاً فوقتاً اپنی خدمات کا جائزہ لے گی۔
موجودہ اقدامات	<ul style="list-style-type: none"> اے ٹی بی کے ارکان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ متعلقہ تربیتی عمل میں شریک ہوں تاکہ وہ نسلی حساسیت سے متعلق اپنے شعور اور نسلی مساوات کے حوالے سے اپنی آگئی میں اضافہ کر سکیں۔ اے ٹی بی نسلی اقلیتوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھے گی اور ضروری اقدامات اٹھائے گی تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ نسلی پس منظر سے قطع نظر، عامہ الناس کے ہر رکن کو تمام خدمات فراہم کی جائیں۔

C. تربیت عملہ

متعلقه خدمات	<ul style="list-style-type: none"> فرنٹ لائن عملہ کی نسلی حساسیت اور نسلی امتیاز کے آرٹیبینس کے حوالے سے شعور میں اضافہ کرنا۔
مستقبل کے کام کا جائے	<ul style="list-style-type: none"> ڈی ای وی بی (پی ایل بی) ایکوئی اپرچیونٹی کمیشن، کنسٹیٹیوشنل اینڈ مین لینڈ افیئر ز بیورو، سول سروس ٹریننگ اینڈ ڈیلپمنٹ انسٹیٹیوٹ یا متعلق غیر حکومتی اداروں کے ساتھ کام کرنا جاری رکھے گا تاکہ فرنٹ لائن عملہ کو تربیت فراہم کر سکے۔ عملہ کی آراء اس غرض سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ تشوییری موادات کے مواد کو بہتر بنانے کے حوالے سے ملاحظہ کیا جا سکے۔

نسی مساوات کی ترویج کے لیے موجودہ اور تجویز کردہ اقدامات کے حوالے سے استفسارات کے لیے، براہ مہربانی درج ذیل چینلز کے ذریعے سینٹر ایگزیکٹو آفس (ایڈمنسٹریشن) سے رابطہ قائم کریں ۔

افسر	:	Ms Aileen CHAN
لیفون نمبر	:	3509 7812
س نمبر	:	2509 9988
ڈاک کا پتہ	:	18/F, West Wing, Central Government Offices, 2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong

پلاننگ اینڈ لینڈز برانچ
ڈویلپمنٹ بیورو
جنون 2025